



## سوال

(593) جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میری مشکلات کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا شوہر شرابی ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا ایک سال سے بے کار ہے اور کوئی کام بھی نہیں کرتا میرے اس سے دو نابالغ بچے ہیں اور اب میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوں جب کہ میرا شوہر مختلف حیلوں اور بہانوں سے مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے۔ میں بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں تو کیا اس کے پاس چلی جاؤں؟ یا اس سے طلاق کا مطالبہ کروں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بے نماز اور شرابی کے ساتھ زندگی بسر کرنا جائز نہیں لہذا براہ کرم مہربانی فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے!

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

وہ شوہر جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

«الہمد للہ الذی بینا وینم الصلاة فمن ترکاھد کفر» (سنن ترمذی)

”وہ عہد جو ہمارے اور ان کے مابین ہے، نماز ہے، جو اسے ترک کر دے وہ کافر ہے۔“ (احمد، اہل سنن باسناد صحیح) نیز آپ نے فرمایا ہے کہ

«بین الرجل و بین الکفر والشک ترک الصلاة» (صحیح مسلم)

”آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق، ترک نماز سے ہے۔“

اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے لہذا تارک نماز کافر ہے خواہ وہ نماز کے وجوب کا انکار کرے یا نہ کرے ہاں اگر وہ نماز کے وجوب کا منکر ہے تو اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے اور اگر وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز ترک کرتا اور اس کے وجوب کا انکار نہیں کرتا ہے۔ تو مذکورہ بالا دو اور ان کے ہم معنی دیگر احادیث کے پیش نظر علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ بھی کافر ہے!

اے سوال کرنے والی خاتون! تیرے لئے اس وقت تک اپنے مذکورہ شوہر کی طرف واپس جانا جائز نہیں جب تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بخشنے اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ولی التوفیق (شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ)



هدا ما عندي والهدى علم بالصواب

## فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1

صفحہ نمبر 483

محدث فتویٰ